

دعوتِ اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے رمضان اعتکاف کا شیڈول

آخری عشرے کا اعتکاف جدول

(صفحات: 73) (1447ھ/2026ء)

اعتکاف کے فضائل

اعتکاف مجالس اور ان کے کام

اعتکاف جدول

رہنما کتب و رسائل کے لنکس

پاکستان مشاورت آفس
(دعوتِ اسلامی)

المدریۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)
Islamic Research Center

پیشکش:

دعوتِ اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے رمضان اعتکاف کا شیڈول

آخری عشرے کا اعتکاف جدول

(1447ھ / 2026ء)

پیشکش:

Islamic Research Centre
المدينة العلمیة (دعوتِ اسلامی)

اور

پاکستان مشاورت آفس (دعوتِ اسلامی)

کتاب پڑھنے کی دعا

دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجئے
ان شاء اللہ الکریم جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ دُعا یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

(المستطرف، 1/40، دار الفکر بیروت)

(اوّل آخر ایک بار دُرُودِ شریف پڑھ لیجئے)

نام کتاب : آخری عشرے کا اعتکاف جدول 2026

صفحات : 73

اشاعت : مارچ 2026ء (ویب ایڈیشن)

پیشکش : اسلامک ریسرچ سینٹر (المدینۃ العلمیہ) فیصل آباد

پاکستان مشاورت آفس (دعوتِ اسلامی)

فہرست

- اعتکاف کے فضائل 4 جدول کے لئے رہنما کتب و رسائل 44
- دس دن کا اعتکاف 5 اعتکاف کا تفصیلی جدول 47
- اعتکاف کا مقصود اصلی 5 ﴿20﴾ رمضان المبارک 47
- ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت 6 ﴿21﴾ رمضان المبارک 47
- سارے مہینے کا اعتکاف 6 ﴿22﴾ رمضان المبارک 49
- دو فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ﴿23﴾ رمضان المبارک 52
- بغیر کیے نیکیوں کا ثواب 7 ﴿24﴾ رمضان المبارک 54
- روزانہ حج کا ثواب 7 ﴿25﴾ رمضان المبارک 56
- دعوتِ اسلامی میں اجتماعی اعتکاف کی ابتدا 8 ﴿26﴾ رمضان المبارک 58
- دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف 9 ﴿27﴾ رمضان المبارک 60
- رمضان المبارک کی 12 نیتیں 15 ﴿28﴾ رمضان المبارک 63
- اعتکاف مجالس 16 ﴿29﴾ رمضان المبارک 65
- اعتکاف نگران (9 مجالس) 16 ﴿30﴾ رمضان المبارک 67
- مین مجلس اور ماتحت ذیلی مجالس کے نام اور ان افطار اجتماع کا جدول 70
- کے ذمے کام 16 افطار اجتماع کا یومیہ جدول اور تیاری کا طریقہ
- اعتکاف جدول ایک نظر میں 43 71

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

آخری عشرے کا اعتکاف جدول

(1447ھ/2026ء)

درویش شریف کی فضیلت

جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے: اے اللہ پاک! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے: اے اللہ پاک مجھے شیطان سے دور فرما۔⁽¹⁾

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اعتکاف کے فضائل

پیارے اسلامی بھائیو! رَمَضَانُ المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے! یوں تو اس کی ہر ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساعت بے پایاں برکتیں لئے ہوئے ہے، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لئے ہمارے پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ماہِ رَمَضَانِ پاک کا پورا مہینا بھی اعتکاف فرمایا ہے اور آخری دس دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت ”آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم رَمَضَانِ المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شِوَالِ المکرم کے

1... مسند الفردوس، 1/10، حدیث: 6026۔

آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔“ (1)

ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان

شریف میں بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ (2)

دس دن کا اعتکاف

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ (یعنی آخری دس دن) کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو وفات (ظاہری) عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد آپ کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ (3)

معتکف کا مقصودِ اصلی انتظارِ نمازِ باجماعت

فتاویٰ عالمگیری میں ہے: اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں کیونکہ اس میں بندہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کیلئے کلیئہ (یعنی مکمل طور پر) اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت میں مُشتمک کر دیتا ہے اور ان تمام مشاغلِ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو اللہ پاک کے قُرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور معتکف کے تمام اوقات حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں۔ (کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے) اور اعتکاف کا مقصودِ اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے اور معتکف اُن (فرشتوں) سے مُشاہت رکھتا ہے جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں، اور ان کے

1... بخاری، 1/671، حدیث: 2041-

2... ترمذی، 2/212، حدیث: 803 مخلصاً-

3... بخاری، 1/664، حدیث: 2026-

ساتھ مُشاہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ پاک کی تسبیح (پاکی) بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سے آکتاتے نہیں۔^(۱)

ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کیلئے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے ہر خندق کی مسافت (یعنی ذوری) مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔^(۲)

سارے مہینے کا اعتکاف

حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”ایک مرتبہ سلطانِ دو جہان، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے بیس رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ”میں نے شبِ قدر کی تلاش کیلئے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا پھر مجھے بتایا گیا کہ شبِ قدر آخری عشرے میں ہے لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔“^(۳)

دو فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

(۱) جس نے رمضان المبارک میں دس دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے دو حج اور

دو عمرے کئے۔^(۴)

① ... فتاویٰ عالمگیری، 1/212۔

② ... معجم اوسط، 5/279، حدیث: 7326۔

③ ... مسلم، ص 594، حدیث: 1167۔

④ ... شعب الایمان، 3/425، حدیث: 3966۔

(2) اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کیلئے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لئے ہوتی ہیں۔⁽¹⁾

بغیر کیے نیکیوں کا ثواب

مفسرِ شہیر حکیمُ الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 2 کے تحت مرآة جلد 3 صفحہ 217 پر فرماتے ہیں: ”یعنی اعتکاف کا فوری فائدہ تو یہ ہے کہ یہ معتکف کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ عکف کے معنی ہیں روکنا، باز رکھنا، کیونکہ اکثر گناہ غیبت، جھوٹ اور چغلی وغیرہ لوگوں سے اختلاط کے باعث ہوتی ہے معتکف گوشہ نشین ہے اور جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد و اعتکاف کا لحاظ رکھتے ہوئے بری باتیں نہ کرتا ہے نہ کراتا ہے۔ یعنی معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا جیسے زیارت قبور مسلمان سے ملاقات بیمار کی مزاج پرسی، نماز جنازہ میں حاضری اسے ان سب نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے یہ کام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، ان شاء اللہ الکریم غازی، حاجی، طالب علم دین کا بھی یہی حال ہے۔“

روزانہ حج کا ثواب

حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے: ”معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔“⁽²⁾

صَلُّوا عَلَي الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ

(نوٹ: مذکورہ بالا مضمون فیضانِ رمضان، ص 227 تا 233 سے نقل کیا گیا ہے)

1... ابن ماجہ، 2/365، حدیث: 1781-

2... شَعَبُ الْإِيمَانِ، 3/425، حدیث: 3968-

دعوتِ اسلامی میں اجتماعی اعتکاف کی ابتدا

پیارے اسلامی بھائیو! ہر سال دعوتِ اسلامی کے تحت ہزارہا اسلامی بھائی پورے رمضان المبارک اور آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں۔ اس اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہمُ العالیہ اس اعتکاف کی شروعات اور اپنے پہلے اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

دعوتِ اسلامی بننے سے شاید تین یا چار سال پہلے جن دنوں میں نور مسجد کا غزی بازار میں امامت کرتا تھا اُس وقت میں نے اعتکاف شروع کیا اور میں اکیلا ہی اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ اکیلے بیٹھنے میں بڑی آزمائش تھی کیونکہ رات کو تو اسلامی بھائی آجاتے اور لیکن صبح وہ سب چلے جاتے اور میں اکیلا رہ جاتا، مسجد کے اوپر کا حصہ جہاں میں رہتا تھا وہ کھلا ہوا تھا اور کبوتروں کی ایک تعداد تھی جو وہاں پھڑ پھڑاتے رہتے تھے، پھر یہ علاقہ میمنوں کا تھا جہاں رمضان کے آخری دس دنوں میں چندہ مانگنے والے مائیک لے کر اعلانات کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہ آتی۔ یہ میرے لیے بڑی آزمائش تھی، میں سو نہیں سکتا تھا اور یونہی کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ مسلسل بے آرامی کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، بخار ہوا اور اُلٹی بھی آئی، قریب تھا کہ میں دل چھوڑ بیٹھتا اور گھر چلا جاتا لیکن الحمد للہ میں نے اعتکاف مکمل کیا۔ پھر اگلے سال میں نے انفرادی کوشش کر کے دو اور اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور تیسرے یا چوتھے سال ہی اس مسجد میں ایک ساتھ 28 افراد نے اعتکاف کیا۔ یہ بہت ہی انوکھی چیز تھی اور لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ 28 لوگ اور وہ بھی نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ دراصل پہلے اعتکاف کا یہ انداز ہوتا تھا کہ محلے والے اعتکاف کے لیے کسی بوڑھے آدمی کو تلاش کر لیتے تھے، اسے دو ٹائم کا کھانا پینا دیتے تھے اور وہ بے

چارہ ایک پردہ ٹانک کر تلاوت کرتا رہتا تھا لیکن اس انداز میں اعتکاف ایک بالکل نئی چیز تھی اس لیے اس کی دھوم مچ گئی۔ پھر اس کے بعد دعوتِ اسلامی بھی بن گئی اور ہم نے دعوتِ اسلامی کے سب سے پہلے مرکز گلزارِ حبیب مسجد میں اعتکاف کیا تو وہاں پہلے ہی اعتکاف میں 60 افراد نے اعتکاف کیا۔ چراغ سے چراغ جلتا رہا اور بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ اب تو کچھ سالوں سے ایک ماہ کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں بلکہ دوسرے ممالک تک اس کا سلسلہ پھیل چکا ہے۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ الحمد للہ ہزاروں افراد رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں اور آخری عشرے میں تو ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب تو اعتکاف کی ایسی بہاریں آچکی ہیں اور اس کا ایسا ڈنکا بجا ہے کہ اب کئی لوگوں کے لیے یہ ہر سال کا معمول بن چکا ہے کہ انہوں نے دس دن کا اعتکاف کرنا ہے، اس کے بغیر انہیں مزہ نہیں آتا۔ اب یہ صرف دعوتِ اسلامی کے ماحول میں ہی نہیں بلکہ دوسری سٹی مساجد میں بھی اسی انداز میں ذوق و شوق کے ساتھ اعتکاف ہو رہے ہیں گویا لوگوں کا ایک Trend بن چکا ہے کہ رمضان شریف میں اعتکاف کرنا ہے۔ الحمد للہ دعوتِ اسلامی کی ایک سوغات یہ بھی ہے کہ اس نے اعتکاف کے ذوق و شوق کی تجدید کی ہے اور اعتکاف کا وہ جذبہ جو ماند پڑ چکا تھا اسے پھر سے جگا دیا ہے۔^(۱)

دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

آئیں گی سنتیں جائیں گی شامتیں دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
جلوہ یار کی آرزو ہے اگر دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

1... آڈیو کیسٹ مدنی مذاکرہ نمبر: 132، امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، قسط 4۔

دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

میٹھے آقا کریں گے کرم کی نظر
 مرضِ عصیاں سے چھٹکارا چاہو اگر
 آؤ آؤ ادھر ادھر آجھی جاؤ ادھر
 چوٹ کھا جائے گا اک نہ اک روز دل
 فضلِ رب سے ہدایت بھی جائے گی مل
 فضلِ رب سے گناہوں کی کالک دھلے
 نیکیوں کا تمہیں خوب جذبہ ملے
 گرچہ دل میں ہے فیشن کی اُلفت بھری
 عمر آئندہ گزرے گی سنتِ بھری
 بھائی گر چاہتے ہو ”نمازیں پڑھوں“
 نیکیوں میں تمنا ہے ”آگے بڑھوں“
 تم کو راحت کی نعمت اگر چاہئے
 بندگی کی بھی لذت اگر چاہئے
 موتِ فضلِ خدا سے ہو ایمان پر
 رب کی رحمت سے جنت میں پاؤ گے گھر
 رحمتیں لوٹنے کے لئے آؤ تم
 سنیں سیکھنے کے لئے آؤ تم
 گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی
 ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی
 آؤ آ کر گناہوں سے توبہ کرو

دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

رحمتِ حق سے دامن تم آ کر بھرو
 ختم ہوگی شرارت کی عادت چلو
 دُور ہو گی گناہوں کی شامت چلو
 بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے
 بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے
 ولولہ دیں کی تبلیغ کا پاؤ گے
 فضلِ رب سے زمانے پہ چھا جاؤ گے
 حُبِ دنیا سے دل پاک ہو جائیگا
 جامِ عشقِ محمد بھی ہاتھ آئیگا
 سنئیں کھانا کھانے کی تم جان لو
 مان لو بات اب تو مری مان لو
 لینے خیرات تم رحمتوں کی چلو
 لوٹنے برکتیں سنئوں کی چلو
 پیارے اسلامی بھائی چلے آؤ تم
 خالی دامن مُرادوں سے بھر جاؤ تم
 میٹھے آقا کی اُلفت کا جذبہ ملے
 داڑھی رکھنے کی سُنّت کا جذبہ ملے
 اِنْ شَاءَ اللّٰہ ہر کام ہوگا بھلا
 دور ہوگی بفضْلِ خُدا ہر بلا
 سیکھنے کو ملیں گی تمہیں سنئیں

دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

لُوطِ لُو آ کر اللہ کی رحمتیں
 گیت گانے کی عادت نکل جائیگی
 بے جا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائیگی
 ساری فیشن کی مستی اُتر جائے گی
 زندگی سنّتوں سے نکھر جائے گی
 گر مدینے کا غم چشمِ نم چاہئے
 مدنی آقا کی نظرِ کرم چاہئے
 سننیں سیکھ لو رحمتیں لُوطِ لُو
 دین کے علم کی برکتیں لُوطِ لُو
 تم گناہوں سے اپنے جو بیزار ہو
 تم پہ فضلِ خدا، لُطفِ سرکار ہو
 ذکر کرنا خدا کا یہاں صبح و شام
 پاؤ گے نعتِ محبوب کی دھوم دھام
 کر کے ہمتِ مسلمانو آجاؤ تم
 اُخروی دولت آؤ کما جاؤ تم
 دردِ ناگلوں میں ہو، دردِ گھٹنوں میں ہو
 پیٹ میں درد ہو یا کہ ٹُخنوں میں ہو
 سنّتوں کی تم آ کر کے سوغات لو
 آؤ بٹی ہے رحمت کی خیرات لو
 گورِ تیرہ کو تم جگمگانے چلو

دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

راحتیں روزِ محشر کی پانے چلو
 چھوٹ جائے گی فلموں ڈراموں کی لت
 خوش خدا ہو گا بن جائیگی آخرت
 تنگ دستی کا حل بھی نکل آئے گا
 روزگار ان شاء اللہ مل جائے گا
 عاشقانِ رسول آؤ دیں گے بیاں
 دور ہوں گی عبادت کی خامیاں
 باجماعت نمازوں کا جذبہ ملے
 دل کا پڑمردہ غنچہ خوشی سے کھلے
 سیکھنے زندگی کا قرینہ چلو
 دیکھنا ہے جو بیٹھا مدینہ چلو
 ان شاء اللہ بھائی سدھر جاؤ گے
 مرضِ عصیاں سے چھٹکارا تم پاؤ گے
 دل میں بس جائیں آقا کے جلوے مُدام
 دیکھو مکے مدینے کے تم صبح و شام
 صحبتِ بد میں رہنے کی عادت چھٹے
 خصلتِ جُرم و عصیاں تمہاری مٹے
 آؤ عشقِ محمد کے پینے کو جام
 مست ہو کر کرو خوب تم دینی کام

دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
 دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف^(۱)

زندگی کا قرینہ ملے گا تمہیں
 آؤ دردِ مدینہ ملے گا تمہیں
 آؤ سنت کا فیضان پاؤ گے تم
 اِنْ شَاءَ اللّٰهُ جَنّت میں جاؤ گے تم
 تم کو تڑپا کے رکھ دے گو دردِ کمر
 پاؤ گے تم شکوں ہوگا ٹھنڈا جگر
 رنگِ رلیاں مَنانے کا چسکا مٹے
 رقص کی محفلوں کی نُحُوست چھٹے
 ڈھول باجوں کو سُننے سے باز آؤ تم
 فلمی گانے نہ ہرگز کبھی گاؤ تم
 چھوڑ دو چھوڑ دو بھائی رِزقِ حرام
 آؤ کرنے لگو گے بہت نیک کام
 فضلِ رب سے ہو دیدارِ سلطانِ دیں
 شادمانی سے جھومے گا قلبِ حزیں
 مان بھی جاؤ عطار کی التجا
 ہوگا راضی خدا خوش شہِ انبیا

صلّوا علی الحبيب..... صلی اللہ علی محمد!

رمضان المبارک کے بارہ حروف کی نسبت سے رمضان المبارک کی 12 اچھی نیتیں

ان میں سے جن پر عمل کرنے کا ذہن ہو وہ نیتیں کر لیجئے

- (1) اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رمضان کریم میں خوب نیکیاں کروں گا۔
- (2) تراویح سمیت پانچوں نمازیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔
- (3) روزوں کے ظاہری و باطنی آداب کا خیال رکھوں گا۔
- (4) اپنے آپ کو گناہوں، برے کاموں، فضول کاموں اور فالتو باتوں سے بھی بچاؤں گا۔
- (5) زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھوں گا۔
- (6) پورے ماہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کریم ختم کروں گا۔
- (7) فرض و واجب صدقات دینے مثلاً فطرہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ نفل صدقہ و خیرات بھی کروں گا۔
- (8) پڑوسیوں اور سفید پوش رشتے داروں وغیرہ کی مالی مدد کروں گا۔
- (9) رمضان کریم کی طاق (ODD) راتوں میں ”صلوٰۃ التسخیر“ پڑھوں گا۔
- (10) پورے ماہ رمضان یا کم از کم آخری دس دن کا اعتکاف کروں گا۔
- (11) اس ماہ مبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم دل میں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔
- (12) جتنا ہو سکا با وضو رہوں گا۔ ان شاء اللہ الکریم

خوب اچھی نیتیں ہر کام میں کرتے رہو رب کو راضی کر کے تم سوائے جنناں بڑھتے رہو



صلوٰۃ اعلیٰ الجبیب صلی اللہ علیٰ محمد

نوٹ: اسلامی بہنیں حسب ضرورت ترمیم کر لیں

اعتکاف مجالس

(نوٹ: آخری عشرہ اعتکاف میں ہر جگہ تعداد کے مطابق ہی ضرورتاً مجالس بنائی جائیں۔)

اعتکاف نگران (9 مجالس)

(1) جدول نگران (2) انتظامی امور نگران (3) قافلہ (4) سکیورٹی مجلس (5) خیر خواہ مجلس (6) خود کفالت (7) رابطہ برائے شخصیات (8) ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرہ (9) مجلس کارکردگی۔

میں مجلس اور ماتحت ذیلی مجالس کے نام اور ان کے ذمے کام

#	میں مجلس	ذیلی مجالس / ذمہ داران
1.	جدول نگران (4 ذیلی مجالس)	ذمہ داران: * معاون جدول نگران * اعتکاف علاقائی نگران، معاون علاقائی نگران * اعتکاف حلقہ نگران، معاون حلقہ نگران۔ ذیلی مجالس: (1) اصلاح اعمال (2) عیادت مجلس (3) مدرسۃ المدینہ بالغان (4) احکام نماز کا حلقہ
2.	انتظامی امور نگران (15 ذیلی مجالس)	* خریداری * صفائی ستھرائی * تیاری طعام * فراہمی طعام * تحفظ رزق * پینا فلکس / کارڈ * فنانس * روحانی علاج * ڈسپینسری * خوشبو مجلس * امانت و گمشدہ سامان کاؤنٹر * مکتبۃ المدینہ اسٹال * کیٹین * مسجد سے متعلقہ انتظامی امور * جو تا اسٹیٹڈ

3.	قافلہ (5 ذیلی مجالس)	* نیت مجلس * استقبالیہ * تصدیق مجلس * دارُ السنۃ * چاندرات قافلے
4.	سیکیورٹی مجلس (3 ذیلی مجالس)	* سیکیورٹی * پارکنگ * CCTV
5.	خیر خواہ مجلس	* خیر خواہ مجلس
6.	خود کفالت (3 ذیلی مجالس)	* خود کفالت * لنگر رضویہ * ڈونیشن کاؤنٹر
7.	رابطہ برائے شخصیات	* رابطہ برائے شخصیات
8.	ہفتہ وار اجتماع ومدنی مذاکرہ (3 ذیلی مجالس)	* افطار اجتماعات * رمضان مدنی مذاکرے * رمضان کے ہفتہ وار اجتماعات
9.	مجلس کارکردگی (4 ذیلی مجالس)	* اعتکاف سے متعلقہ کارکردگیاں * فیڈبیک * ڈیٹا انٹری * 26 ویں شریف کی نیتیں

1. اعتکاف نگران

1.1. اعتکاف سے پہلے کے کام

* اعتکاف کے لئے منتخب کردہ مقام کا وزٹ کرنا۔

* اعتکاف کے مقام پر 9 رکنی مجلس اور ان کے تحت ذیلی مجالس پر فعال ذمہ داران مقرر کرنا / کروانا۔

* اعتکاف نگران کے پاس تمام اراکین کے نام، رابطہ نمبر اور ذمہ داریوں کی تفصیل

تحریری طور پر ہونی چاہئے۔

• اعتکاف کے مقام سے متعلقہ ٹاؤن / یوسی نگران سے اعتکاف کی تیاری سے متعلق مدنی مشورہ کرنا۔

• جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر طلباء و اساتذہ کرام کو اعتکاف کی دعوت دینا۔ جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے 12 دینی کاموں کے ذمہ داران سے بھی مشاورت ہو تو بہتر ہے۔

• اعتکاف کی نیت کرنے والوں کا ڈیٹا موبائل ایپ میں انٹر کروانا اور اس کا جائزہ لینا۔
• معتکفین کی متوقع تعداد کے مطابق بنیادی ضروریات مثلاً غسل خانے، استنجاء خانے، وضو خانے وغیرہ چیک کرنا اور کسی کمی / کمزوری کی صورت میں متعلقہ ایڈمن / ناظم سے پیشگی حل کروانا۔

• اعتکاف کے مقام پر بجلی کے متبادل یو۔ پی۔ ایس یا جنریٹر کا انتظام کروانا۔
• فیضانِ مدینہ (مدنی مراکز) میں ضرورتاً خادمین، سیکورٹی گارڈ اور باورچی وغیرہ مقرر کرنا۔ (نوٹ: خادمین و باورچی شعبہ فیضانِ مدینہ (مدنی مراکز) کے طریقہ کار کے مطابق ناظم الامور کے تحت ہوں گے)

• HR کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق 1 ماہ / آخری عشرے کا اعتکاف کروانے والے مبلغین کا ضرورتاً اجارہ یا خیر خواہی کی ترکیب کرنا۔

1.2. اعتکاف کے دوران کے کام

• اعتکاف کی مین مجالس کے مشورے کرنا، ضرورتاً ان کے تحت ذیلی مجالس کو مشاورت میں شامل کرنا، مدنی مشوروں میں نظام کو بہتر کرنے اور جائزہ کے دوران آنے والی

کمزوریوں کو دور کرنے کے اقدامات کرنا۔

• وقتاً فوقتاً اعتکاف کے حلقوں میں جانا، اعتکاف کو جدول کے مطابق چیک کرنا اور ضرورتاً مسجد کے آداب بتانا۔

• روزانہ کی بنیاد پر صفائی کے انتظامات چیک کرنا اور کمزوری کی صورت میں متعلقہ ایڈمن / ناظم کی معاونت سے بہتر کرنا۔

• روزانہ کھانے کا معیار چیک کرنا اور بیمار عاشقانِ رسول کے لئے پرہیزی کھانے کا انتظام کروانا۔

• حلقوں کی تقسیم کاری کے مطابق اسلامی بھائیوں کو چیک کرنا اور حکمتِ عملی کے ساتھ اپنے اپنے حلقے میں بیٹھنے کا ذہن دینا۔

• معتکفین کی طرف سے ملنے والے فیڈبیک پر متعلقہ اعتکاف مجلس سے مشورہ کرنا اور بہتر حل تلاش کرنا۔

2. جدول نگران

• معتکفین کو کتاب فیضانِ رمضان سے اعتکاف کی نیتیں کروانا، جدول پر عمل کی اہمیت، ضرورت، فوائد بتانا اور %100 عمل کروانے کی بھرپور کوشش کرنا۔

• اعتکاف نگران کی مشاورت سے معاون جدول نگران کا تقرر کرنا۔

• معتکفین کی تعداد کے مطابق علاقائی نگران، معاون علاقائی نگران، حلقہ نگران، معاون

حلقہ نگران اور ذیلی مجالس مثلاً اصلاحِ اعمال، عیادت مجلس وغیرہ کے ذمہ داران مقرر کرنا۔

• حتی الامکان ذیلی مجالس کے لئے ”مدنی“ اور تنظیمی ذمہ داران کا تقرر کرنا۔

• اپنے تحت ذمہ داران کی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرنا اور ان کے مسائل حل کرنا۔

2.1. معاون اعتکاف جدول نگران

- طے شدہ اوقاتِ کار اور طریقہ کار کے مطابق اعتکاف جدول چلانے میں جدول نگران کی معاونت کرنا اور اس کی غیر موجودگی میں جدول چلانا۔

2.2. اعتکاف علاقائی نگران

(جدول نگران، اعتکاف نگران کی مشاورت سے اعتکاف علاقائی نگران کا تقرر کریں)

- 10 سے 12 معتکفین پر مشتمل ایک حلقہ بنا کر اس پر ایک نگران مقرر کرنا۔
- حلقہ نگران “سنجیدہ، بااخلاق، ملنسار اور اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر ”چلنے والا ہونا چاہئے۔ (حلقہ نگران 12 ماہ والا یا کسی بھی سطح اور شعبے کا تنظیمی ذمہ دار ہو تو بہتر ہے)
- روزانہ کی بنیاد پر حلقہ نگرانوں سے کارکردگی لینا۔

- حلقہ نگرانوں سے اعتکاف سے متعلق آنے والے مسائل سننا اور ان کا بروقت حل کروانا۔
- جدول نگران / اعتکاف نگران کی مشاورت سے ضرورتاً معتکفین کے حلقے و حلقہ نگران کی تبدیلی کرنا۔

- کسی شرعی عذر کے سبب اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے اور وہ اعتکاف سے چلا جائے تو فوراً ان سے رابطہ کرنا اور انہیں واپس اعتکاف کروانے کی کوشش کرنا۔

نوٹ: ضرورت کے پیش نظر حلقوں کی تعداد یا حلقہ نگران کی تعداد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔

2.3. اعتکاف حلقہ نگران

- اعتکاف علاقائی نگران کی طرف سے دیے ہوئے کاموں پر عمل کرنا۔
- معتکفین کا سامان اچھے انداز میں مقررہ جگہ (مثلاً دوستونوں کے درمیان / ہال کی پچھلی جانب

کسی دیوار کے ساتھ وغیرہ) پر رکھوانا۔

❁ معتکفین کو دعوتِ اسلامی کے شعبہ جات (جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، دارالافتاء

اہلسنت اور FGRF وغیرہ)، موبائل ایپلی کیشنز (Islam for ever Prayer Time،

صراط الجنان، فتاویٰ رضویہ، بہار شریعت وغیرہ) اور ویب سائٹس کا تعارف کروانا۔

❁ معتکفین کو ہر سال رمضان اعتکاف (1 ماہ / آخری عشرہ) کرنے کا ذہن دینا اور ان کو دعوتِ

اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، قافلہ

اور مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ میں شرکت کرتے رہنے کی ترغیب دلانا۔

❁ معتکفین کو ترغیب دلائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور متعلقین کو دعوتِ اسلامی کے اداروں

مثلاً مدرسۃ المدینہ (گرلز/بوائز)، جامعۃ المدینہ (گرلز/بوائز) اور دارالمدینہ، فیضان

آن لائن اکیڈمی وغیرہ میں داخل کروائیں۔

❁ معتکف کی طبیعت خراب ہونے / ایمر جنسی کی صورت میں اعتکاف نگران کو فوری

اطلاع کرنا۔

❁ معتکفین کو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق سُلانا اور بیدار کرنا۔

❁ سحری و افطاری کے لیے عاشقانِ رسول کو حلقہ وائز بٹھانا۔

2.4. اصلاح اعمال

❁ ”ماہ رمضان ماہ نیک اعمال“ تنظیمی طور پر طے شدہ ہے۔ ایک ایک معتکف تک نیک اعمال

کا رسالہ پہنچانا۔

❁ معتکفین میں نیک اعمال کے رسائل تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ موبائل ایپ کا تعارف

کروانا اور انسٹال (Install) کروانا۔

• معتکفین کو روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد سے آگاہ کرنا۔

• امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ملنے والی مختلف دینی تحریکوں (مثلاً، نمازی بناؤ تحریک، فیضان مسواک، تلاوت و درود خوانی وغیرہ) کے متعلق معلومات فراہم کرنا۔

• دوران اعتکاف معتکفین کو دینی تحریکوں میں سے جن پر عمل ہو سکے، ان پر عمل کروانا۔

• معتکفین کو بعد اعتکاف بھی نیک اعمال کے رسائل کا روزانہ جائزہ لینے اور ہر عیسوی ماہ کی پہلی تاریخ کو نیک اعمال کا رسالہ جمع کروانے کا ذہن دینا۔

2.5. عیادت مجلس

• عیادت مجلس میں سے اعتکاف کے مقام پر کم از کم ہر وقت 2 اسلامی بھائیوں کا موجود ہونا۔

• معتکفین میں سے کسی کی طبیعت ناساز ہونے کی صورت میں مریض کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا۔

• بیمار اسلامی بھائیوں کو میڈیسن دینا اور ان کے لئے پرہیزی کھانے کا انتظام مجلس لنگرِ رضویہ کے ذریعے کروانا۔

• حلقہ نگرانوں کو ایمر جنسی کی صورت میں رابطہ کرنے کیلئے عیادت مجلس کا نمبر دینا۔

2.6. مدرسۃ المدینہ بالغان

• حاضری رجسٹر میں معتکفین کا اندراج اور روزانہ حاضری لگانا۔

• نصاب ”قرآن سیکھے (حصہ 1)“ سے جدول کے مطابق روزانہ ایک آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھ کر سنانا۔

• پڑھنے والوں کی صلاحیت کے مطابق مدنی قاعدے کے سبق کی ترکیب کرنا۔

- روزانہ ہر طالب علم سے انفرادی طور پر سبق سننا۔
- نصاب ”قرآن سیکھے“ (حصہ 1) سے جدول کے مطابق معنی کی تبدیلی کی مثالیں بیان کر کے تجوید کی اہمیت اور درست قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دلانا۔
- نوٹ: مختلفین کو مکمل مدنی قاعدہ، آخری 10 سورتیں اور مکمل اذکارِ نماز یاد کروانے کی کوشش کرنا۔

2.7. احکام نماز کا حلقہ

- احکام نماز کا حلقہ دارالافتاء اہلسنت کے مفتی صاحب / مدنی اسلامی بھائی / کوئی اہل اسلامی بھائی ہی لگائیں۔

3. انتظامی امور

3.1. لائٹ

- اعتکاف میں تعداد اور ضرورت کے مطابق لائٹس کا انتظام کرنا اور اعتکاف ہال / مسجد میں لائٹس لگانا اور ایونٹ کے بعد اتارنا۔
- پاور مینجمنٹ اور سیفٹی چیک کرنا تاکہ کوئی الیکٹریکل مسئلہ نہ ہو۔
- ٹیکنیکل خرابیوں کو فوری حل کرنا (لائٹ یا کیبل خراب ہونے پر متبادل کا انتظام رکھنا)
- الیکٹریکل اوزار کٹ (Instrumental Kit) درست حالت میں مکمل رکھنا۔
- لائٹ بند ہونے کی صورت میں جنریٹر یا UPS کے ذریعے فوراً بجلی کی فراہمی یقینی بنانا۔

3.2. ساؤنڈ

- افطار اجتماع، ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرے، اعتکاف کے حلقوں اور لائو ایونٹس وغیرہ میں ساؤنڈ سسٹم متوازن رکھنا۔ اگر ساؤنڈ سسٹم میں کوئی تکنیکی خرابی ہو تو اسے فوری

حل کرنا (ساؤنڈ سے متعلقہ ایمر جنسی سامان کا انتظام رکھنا مثلاً مائیک وغیرہ)۔

- معتکفین اور دیگر عاشقان رسول کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں اضافی ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کرنا۔

3.3. جو تا اسٹینڈ

- معتکفین اور نمازیوں کے جو توں کی حفاظت کے لیے ریکس، ٹوکن اور جو تا اسٹینڈ کا پیشگی انتظام کرنا۔

- نمازیوں کو جو تا رکھنے پر اس کا ٹوکن نمبر دینا اور واپسی پر ٹوکن وصول کر کے جو تا دینا۔
- جو تا اسٹینڈ کے اوقات کار اور کسی مسئلے کی صورت میں رابطہ وغیرہ کے لئے پرنٹ شدہ تحریر چسپاں کرنا۔

- جو تا پہننے اور اتارنے کے لئے بیٹھنے کا مناسب انتظام کرنا۔

- جو تا اسٹینڈ سے مسجد تک میٹ بچھانا۔

3.4. خریداری

- اعتکاف نگران کے تصدیق شدہ فارم کے مطابق سامان کی خریداری کرنا اور سامان متعلقہ ذمہ دار کے حوالے کرنا۔

- اعتکاف کے لیے جو سامان آرڈر پر تیار کروایا جاتا ہے اس کا ڈیلی فالو اپ کرنا اور متعلقہ ذمہ دار کو اپڈیٹ کرنا۔

- خریدی گئی اشیاء کی میعاد (Expiry Date) چیک کرنا۔

- خریدے ہوئے سامان کے بل کے مطابق GRN (Goods Receipt Note) بنوانا اور متعلقہ ذمہ دار کو اپڈیٹ کرنا۔

تمام بل مع GRN اعتکاف فنانس ذمہ دار کو جمع کروانا۔

3.5. صفائی ستھرائی

مسجد کے کارپٹ / دریاں، لائٹ، پنکھے، شیشے، چھت، سیٹھریوں اور کھڑکیوں کی صفائی کروانا، کمی کی صورت میں متعلقہ ایڈمن / ناظم الامور کی مدد سے خادین کی تربیت کرنا۔
وضو خانہ، واش رومز کی صفائی چیک کرنا، کمی کی صورت میں متعلقہ اسلامی بھائی کو تفہیم کرنا۔

وضو خانوں پر صابن رکھوانا اور ضرور تیاگیزر (Geysers) چلوانا۔

معتنن کے سامان اور بستروں کی حفاظت کے ساتھ متعلقہ جگہ پر ترتیب لگوانا۔

سحری اور افطاری کے لیے برتن وغیرہ دھلوانا اور ڈسپوز ایبل (Disposable) دسترخوان کا اہتمام کر کے متعلقہ جگہ پر رکھوانا نیز کچن کی صفائی ستھرائی کروانا۔

کھانے والی جگہ کی اچھی طرح صفائی کروانا۔

واٹر پلانٹ / واٹر کولر کو روزانہ چیک کرنا اور ان کی صفائی کروانا۔

خادین کے لباس وغیرہ کی صفائی ستھرائی اور معتنن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے حوالے سے تربیت کرنا۔

3.6. تیاری طعام

اس مجلس کے ذمہ داران کے لیے یہ رسالہ پڑھنا بہت فائدے مند ہوگا۔ ”کھانے اور کھلانے کے بارے میں سوال جواب“۔ (یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ

www.dawateislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے)

معتنن اور اعتکاف سے متعلقہ مجالس کی تعداد کے مطابق سحری اور افطاری کے لیے

کھانا بروقت تیار کروانا۔

- کچن میں کام کرنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو شیف کیپ، گلو زون وغیرہ پہننے کا پابند کرنا۔
- گوشت، دودھ، اور دیگر حساس اشیاء کو مناسب درجہ حرارت پر محفوظ کرنا۔
- روزانہ سحری و افطاری کے کھانے کا معیار (Standard) چیک کرنا اور کمی بیشی کی صورت میں متعلقہ ذمہ دار کو اطلاع / تنبیہ / تفہیم کرنا۔
- کھانا بچ جانے کی صورت میں اُسے محفوظ کرنا۔
- کچن میں برتن اور دیگر سامان باحفاظت رکھوانا۔
- کھانے پینے والی اشیاء (Grocery Items) کا مکمل ریکارڈ بنانا اور روزانہ اپڈیٹ کرنا۔
- کھانے کے حوالے سے موصول ہونے والی شکایات (Complaints) کا بروقت حل کرنا۔

3.7. فراہمی طعام

- اس مجلس کے ذمہ داران کے لیے رسالہ ”کھانے اور کھلانے کے بارے میں سوال جواب“ پڑھنا بہت فائدے مند ہوگا۔
- تیار شدہ کھانا تیاری طعام مجلس سے بروقت وصول کرنا۔
- سحری اور افطاری کے لیے بروقت دسترخوان اور برتن وغیرہ لگوانا اور کھانا طے شدہ ٹائم پر معتکفین کو پیش کرنا۔
- افطاری کے سامان اور پانی کی پیشگی تیاری کروانا۔
- معتکفین کو ترتیب کے ساتھ حلقہ وازد دسترخوان پر بٹھانا اور نظم و ضبط کے ساتھ کھانا تقسیم کرنا۔
- برتنوں کا مکمل ریکارڈ بنانا اور اسے اپڈیٹ کرنا نیز خراب سامان علیحدہ کرنا۔

3.8. پینا فلیکس اور کارڈ مجلس

✽ مسجد کے آداب اور اعتکاف کی شرعی احتیاطوں پر مشتمل طے شدہ مدنی پھولوں کے پینا فلیکس لگوانا۔

✽ اعتکاف کے حلقوں کے نمبر لگانا۔

✽ رمضان کے بعد تمام پینا فلیکس بحفاظت اتار کر اسٹور میں رکھوانا۔

3.9. اعتکاف فنانس

✽ رسالہ ”چندہ کرنے کی تنظیمی و شرعی احتیاطیں“ اور کتاب ”چندے کے بارے میں سوال جواب“ پڑھنا بے حد مفید رہے گا۔

✽ اعتکاف کی آمدن اور اخراجات کا حساب رکھنا۔

✽ رمضان اعتکاف میں شرکاء کی تعداد کے مطابق اخراجات کا بجٹ بنانا۔

✽ معتکفین اور ایک ماہ اعتکاف کے اراکین مجالس کو عطیات جمع کرنے کی ترغیب دلانا۔

✽ معتکفین میں فطرہ و زکوٰۃ وصولی مہم چلانا۔

✽ اعتکاف کے اراکین مجالس کی ای رسید آئی ڈی بنوانا۔

✽ مینول رسید بکس تقسیم کرنا اور اس کا مکمل ریکارڈ بنانا۔

✽ اعتکاف کے لئے جمع ہونے والے عطیات کی ڈی ایم بنانا اور ڈونر کو رسید پیش کرنا۔

✽ 29 رمضان کو ذمہ داران و عاشقانِ رسول سے رسید بکس مع عطیات وصول کرنا۔

✽ اعتکاف میں ہونے والی تمام خریداری کا مکمل حساب لینا اور کلیئر کرنا۔

3.10. گم شدہ سامان و امانت کا وائٹ

✽ اعتکاف میں ملنے والا سامان بحفاظت محفوظ کرنا۔

- ملنے والے سامان کا ریکارڈ بنانا۔ (کس کے ذریعے سے؟ کیا سامان ملا؟ کس تاریخ کو اور کہاں سے ملا وغیرہ)
- ملنے والے سامان کے حوالے سے مناسب وقت پر معتکفین کو آگاہ کرنا۔
- جس کا سامان ہو اُس کی مکمل تصدیق کرنے کے بعد سامان واپس کرنا۔ (مثلاً کسی کی گھڑی گم ہوئی تھی تو کس کمپنی کی تھی؟ کس کلر کی تھی وغیرہ پوچھنا)۔
- ہر امانت کا اندراج کرنا۔
- امانت جمع کروانے والے کا نام، رابطہ نمبر، امانت کی نوعیت، مقدار اور جمع کروانے کی تاریخ درج کرنا۔
- امانت جمع کروانے والے کو رسید دینا (جس پر امانت کی تفصیلات درج ہوں)۔
- امانت کاؤنٹر پر صرف متعلقہ افراد کو ہی آنے کی اجازت دینا۔
- امانت کاؤنٹر پر بیٹھنے والے ذمہ دار کا مکمل ریکارڈ بنانا (مثلاً نام، رابطہ نمبر، آئی ڈی کارڈ وغیرہ لینا)۔
- وصول کنندہ سے رسید پر دستخط کروانا، تاریخ درج کرنا اور اس کا ریکارڈ اپنے پاس بھی محفوظ رکھنا۔
- امانت کی درستگی اور حالت کو چیک کر کے حوالے کرنا۔

3.11. روحانی علاج

- اعتکاف کے مقام پر روحانی علاج کا بستہ لگوانا / لگانا۔
- روحانی علاج کے بستے کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینا اور کمی بیشی دور کروانا۔
- معتکفین کو روحانی علاج ایپ، ویب سائٹ، گوگل لوکیشنز، واٹس ایپ نمبر، استخارہ،

کاٹ وغیرہ کا تعارف پیش کرنا۔

● معتکفین میں سے بیعت یا طالب ہونے والوں کے نام جمع کرنا اور ان کو بیعت نامے / مکتوبات پہنچانا نیز بیعت / طالب ہونے کی موبائل سروس سے آگاہ کرنا۔ (کسی اجازت یافتہ کے ذریعے ہاتھوں ہاتھ بیعت کی ترکیب کی جاسکتی ہے، بیعت کا مکتوب چاہے مجلس کی طرف سے بعد میں بھیج دیا جائے)۔

3.12 ڈسپنری / میڈیکل سہولت

● اعتکاف کے مقام پر معتکفین کی خیر خواہی کے لیے عارضی میڈیکل کیمپ / ڈسپنری کی سہولت کا انتظام کرنا۔

● میڈیکل کے انتظامات کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لینا، مسائل بروقت حل کرنا۔

● مریضوں کے لئے ضروری میڈیسن کی فراہمی یقینی بنانا۔

● ڈسپنری کے اوقات کار کسی نمایاں جگہ پر لکھ کر لگانا۔

3.13 خوشبو مجلس

● رسالہ: ”مسجدیں خوشبودار رکھیے“ پڑھنا، بہت مفید رہے گا۔ (یہ رسالہ دعوتِ اسلامی کی

ویب سائٹ www.dawateislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے)۔

● مسجد اور مدنی مذاکرے میں اعتکاف نگران کی مشاورت سے خوشبو مثلاً اُلبان وغیرہ سُلگانا۔

3.14 مکتبۃ المدینہ اسٹال

● اعتکاف کے مقام پر مکتبۃ المدینہ کا اسٹال لگوانا۔ (اسٹال خارج مسجد میں لگایا جائے کیونکہ

مسجد و فنائے مسجد میں خرید و فروخت کی اجازت نہیں)۔

● اسٹال سے متعلقہ مسائل بروقت حل کروانا۔

اسٹال پر بالخصوص اعتکاف سے متعلقہ کتابیں، رسائل اور دیگر ضروری سامان کی بروقت فراہمی یقینی بنانا۔

3.15. کینٹین

کینٹین کے اوقات کار کسی نمایاں جگہ پر لکھ کر لگانا۔ (نماز و تراویح کے اوقات میں کینٹین بند رکھی جائے)۔

اعتکاف کے مقام پر معتکفین کی سہولت کے لیے شرعی و تنظیمی رہنمائی کے ساتھ کینٹین کا انتظام کرنا۔

مناسب قیمت اور کھانے پینے والی معیاری اشیاء کا جائزہ لینا، بالخصوص Expiry Date و قفا فو قفا چیک کرنا۔

صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا۔

کینٹین والے کا معتکفین سے اچھے انداز میں بات چیت کرنا اور حتی الامکان ان کی ضروریات پوری کرنا۔

3.16. مسجد سے متعلقہ انتظامی امور

اعتکاف والی مسجد کے سامان (کارپٹ، دریاں، کرسیاں اور دیگر سامان وغیرہ) کی حفاظت کرنا/ کروانا۔

معتکفین کا سامان منظم انداز کے ساتھ طے شدہ جگہ پر رکھوانا، بالخصوص جماعت کے وقت اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے (تاکہ کوئی صف منقطع نہ ہو)۔

مسجد کی کرسیاں اور سترہ وغیرہ اپنی جگہ پر رکھوانا۔

فیضان مدینہ (مسجد) کے اندر، باہر، مسجد، بیسمنٹ اور گیلری وغیرہ کی لائٹس اور پنکھے

چیک کرنا نیز فضول چلتی لائٹس اور پنکھے بند کروانا۔

• سحری و افطاری مسجد (عین مسجد) میں ہونے کی صورت میں مسجد کے آداب کا بہت زیادہ خیال کرتے ہوئے سحری و افطاری کروانا۔

• موسم کے مطابق نمازیوں اور معتکفین کے لیے مناسب انتظامات (AC / ہیٹر وغیرہ) کرنا۔

• مسجد کے کارپٹ، لائٹ، پنکھے، شیشے اور کھڑکیوں کی صفائی چیک کرنا اور ضرورتاً صفائی کروانا۔

• مخصوص شعبہ جات مثلاً روحانی علاج، اسپیشل پرسنل، مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ کے بستے مسجد میں لگنے کی صورت میں ان کا متعلقہ ضروری سامان (ٹیل، پینا فلیکس وغیرہ) ترتیب کے ساتھ رکھوانا۔

• مسجد کے اندر جوتوں کے لیے رکھے گئے ریکس متعلقہ جگہ پر صاف کروا کر رکھوانا۔

• وقتاً فوقتاً مسجد کی قرآن پاک والی الماریوں (Cupboards) کا جائزہ لینا۔

• غیر متعلقہ تراجم و تفاسیر، شہید اوراق وغیرہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے سپرد کرنا۔

3.17 تحفظ رزق

• اس مجلس کے ذمہ داران کو یہ رسائل پڑھنا انتہائی معاون و مددگار ہوگا ”کھانے

کا اسلامی طریقہ، کھانے کی 5 سنتیں، کھانے میں برکت پانے کے طریقے“۔

• اعتکاف میں کھانا ضائع ہونے سے بچانا اور اضافی کھانا بیچ جانے کی صورت میں محفوظ کرنا / دوبارہ استعمال میں لانا۔

• معتکفین، خادمین و دیگر ذمہ داران کو کھانا ضائع ہونے سے بچانے کا ذہن دینا، کھانے

کے آداب بیان کرنا۔

• بچا ہوا کھانا شرعی رہنمائی کے ساتھ درست مصرف میں استعمال کروانا۔

4. قافلہ

4.1. استقبالیہ

- اعتکاف کے لئے آنے والے عاشقانِ رسول کو خوش آمدید کہنے کے لیے کسی مناسب مقام پر خوش آمدید کا پینا فلیکس لگانا۔
- اعتکاف سے متعلقہ ضروری معلومات فراہم کرنا۔
- اعتکاف کرنے والے عاشقانِ رسول کو ڈیٹا انٹری فارم دینا۔
- فارم پُر کرنے کے حوالے سے ان کی معاونت کرنا۔
- معتکفین کے کارڈ بنوانا۔

4.2. تصدیق مجلس

- اعتکاف میں آنے والے اسلامی بھائیوں کا داخلہ فارم چیک کرنا، تصدیق کرنا، ضرورتاً متعلقہ ذمہ داران سے رابطہ کرنا۔
- اعتکاف میں دائمی مریض، کم عمر، بزرگ، کرمنٹل کمیسیزن وغیرہ کی جانچ پڑتال کرنا۔

4.3. نیت مجلس

- مختلف اوقات میں معتکفین سے مبلغ / جدول نگران / علاقائی نگران / حلقہ نگران کے بیان و ملاقات و انفرادی کوشش کے ذریعے اچھی اچھی نیتیں کرنے والوں کے نام اور نیت لکھنا۔
- معتکفین کو 3 دن / 12 دن / ایک ماہ / 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کے لئے تیار کرنا۔
- تیار ہونے والوں کی نیتیں نیت ایپ میں اپڈیٹ کروانا۔ (نام، نمبر، ایڈریس اور نیتوں کے ساتھ مکمل ریکارڈ محفوظ رکھنا)۔

4.4. دارالسنہ

- عاشقانِ رسول کی چاند رات کے قافلوں سے متعلق رہنمائی کرنا۔
- شعبہ قافلہ کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی معلومات فراہم کرنا۔
- قافلوں میں سفر کے لئے تیار ہونے والوں کی نیت ایپ میں انٹری کرنا۔
- چاند رات کے قافلوں کی سمتیں، امیر قافلہ / معاون امیر قافلہ متعین کرنا۔
- ضروری سامان اور سمتوں کے مطابق سفر کے حوالے سے رہنمائی کرنا۔

4.5. چاند رات قافلہ

- چاند رات کے قافلوں میں سفر کے لیے اعتکاف میں انفرادی کوشش کرنا، نیتیں کروانا اور نام و رابطہ نمبر لکھنا۔
- نیت کرنے والوں کی ضروری معلومات (نام، نمبر، ایڈریس، نیت وغیرہ) اپنے پاس محفوظ رکھنا۔
- قافلے میں سفر کی نیت کرنے والوں کو وقتاً فوقتاً یاد دہانی کروانا اور فالو اپ کرتے رہنا۔

5. سیکیورٹی مجلس

5.1. سیکیورٹی

- اس مجلس کے تمام ذمہ داران کیلئے رسالہ ”احترامِ مسلم“ پڑھنا انتہائی فائدے مند ہوگا، ان شاء اللہ الکریم۔
- اعتکاف میں تعداد کے مطابق سیکیورٹی ڈیوٹی کرنے والوں کا جدول / شفٹیں بنانا۔

(Time to Time Schedule)

- رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کے دوران ضرورتاً تحفظی اقدامات کروانا۔

- معتکفین کی تعداد کے مطابق حفاظتی عملہ مقرر کرنا۔
- سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کیلئے دیگر شعبہ جات (فیضانِ مدینہ اور جامعۃ المدینہ وغیرہ) سے معاونت لینا۔
- سیکیورٹی سے متعلقہ تمام مسائل شرعی و تنظیمی رہنمائی سے حل کرنا/ کروانا۔
- سیکیورٹی کے مسائل و معاملات پر حفاظتی عملہ کی وقتاً فوقتاً رہنمائی کرنا۔
- سیکیورٹی سے متعلقہ تمام سامان (واک تھر وگیٹ (Walk Through Gate) اور میٹل ڈیٹیکٹر (Metal Detector) وغیرہ) کا انتظام کرنا۔

5.2. پارکنگ

- اجتماعی اعتکاف کے لئے پارکنگ ایریا کا انتخاب کرنا۔
- پارکنگ میں موجود ہر گاڑی / رکشہ کا ٹوکن دینا۔
- گاڑی / سائیکل / موٹر سائیکل پارکنگ میں ترتیب سے لگوانا۔
- داخلی و خارجی راستے الگ الگ ہونا زیادہ بہتر ہے۔

5.3. سی سی ٹی وی

- سیکیورٹی اقدامات کے لئے اعتکاف کے مقام کا سروے کرنا اور اس کے مطابق سیکیورٹی کیمروں کا اہتمام کرنا۔
- سی سی ٹی وی کیمروں کی سمت (Direction)، تعداد و دیگر اقدامات کے حوالے سے متعلقہ نگران سے مشاورت کرنا۔
- ضرورتاً سیکیورٹی سے متعلقہ سامان (CCTV کیمرے و دیگر لوازمات وغیرہ) کی خریداری کے لئے مشاورت کرنا اور تنظیمی، شرعی و قانونی اجازت لینا۔

- سی سی ٹی وی کیمروں کو کنٹرول کرنے کے لئے کنٹرول روم کا انتظام کرنا۔
 - اجتماعی اعتکاف کے دوران کیمروں کی مدد سے چیکنگ کے لیے آپریٹر کا ہر وقت موجود رکھنا۔
 - داخلی اور خارجی راستوں کی شناخت کرنا۔
 - سی سی ٹی وی کیمروں، سیکورٹی گارڈز، اور دیگر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینا۔
 - کسی بھی کمزور پہلو (Weak Points) کا تجزیہ کرنا۔
 - سیکورٹی کیمروں، موشن سینسرز اور دیگر برقی نگرانی کے نظام کو چیک کرنا۔
 - کسی بھی ممکنہ خطرے کی قبل از وقت اطلاع کرنا اور اس سے بچانے کی کوشش کرنا۔
6. خیر خواہ مجلس

6.1. خیر خواہی

- مجلس خیر خواہ، شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے سپرد ہے۔
- خیر خواہی کے لئے الگ الگ مقامات (عین مسجد، صحن مسجد، وضو خانہ، کینٹین، بیسمنٹ اور حلقہ وغیرہ) پر خیر خواہ مقرر کرنا۔
- اذان ہوتے ہی مختلفین کو بیدار کرنا۔
- مسجد میں شور مچانے، وضو خانے اور کینٹین پر بے جا بیٹھنے، نیز ادھر ادھر گھومنے سے منع کر کے نرمی و شفقت کیساتھ اعتکاف کے جدول میں شرکت کروانا۔
- نماز باجماعت، تراویح، بیانات، مدنی مذاکروں، تربیتی حلقوں اور صلوة التسلیم وغیرہ میں شرکت کی نرمی و حکمتِ عملی سے دعوت دینا۔
- خیر خواہ مجلس کے عاشقانِ رسول کی 2 شفٹوں (فجر تا عشاء اور عشاء تا اشراق و چاشت) میں

تقسیم کاری کرنا۔ (اوقاتِ کار میں ضرورتاً تبدیلی بھی ہو سکتی ہے)

• پانچوں نمازوں، نمازِ جمعہ، تراویح اور دیگر نوافل میں صفیں مکمل کروانا۔

• صفوں کے درمیان سامان ہو تو اس کو سائیڈ پر کرنا نیز شرعی تقاضوں کے مطابق خالی جگہ پُر کروانا۔

• وقتاً فوقتاً صف مکمل کرنے کی فضیلت اور جان بوجھ کر صف میں جگہ خالی چھوڑنے کی وعید سناتے رہنا۔

7. خود کفالت

7.1. خود کفالت

• اعتکاف کے مجموعی متوقع اخراجات کا جائزہ لینا اور اس کے مطابق اخراجات پورا کرنے کی پلاننگ کرنا۔

• ذیلی مجلس کاروانہ کی بنیاد پر مدنی مشورہ کرنا۔

• اعتکاف کے مقام پر ڈونرز کو وزٹ کروانا اور دعوتِ اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات سے

آگاہ کرنا اور اعتکاف کے اخراجات کیلئے عطیات دینے کا ذہن دینا۔

• معتکفین کو اپنے عطیات (زکوٰۃ، فطرہ، صدقات وغیرہ) دعوتِ اسلامی کو جمع کروانے کی ترغیب دلانا۔

• معتکفین کو اپنے گھروں میں ”گھریلو صدقہ بکس“ رکھنے کا ذہن دینا۔

7.2. لنگرِ رضویہ

• لنگرِ رضویہ (سحری و افطاری) کے لئے ضروری اشیاء (آٹا، گھی، چینی، چاول، دالیں وغیرہ) کا

پیشگی انتظام کرنا۔

- سبزی منڈی میں وزٹ کرنا اور اہل محبت دکاندار و مالکان سے سحری افطاری کے لئے سبزیوں کی ترکیب کرنا۔
- اعتکاف کے لیے پھلوں (کیلا، سیب اور کھجور وغیرہ) کی ترکیب کرنا۔
- عشر ذمہ دار کے ذریعے بڑے زمینداروں سے ملاقات کرنا اور ان سے گندم، چاول، دودھ وغیرہ لگوانا۔
- گوشت فروش سے ملاقات کرنا اور معتکفین کے لئے گوشت کی ترکیب کرنا۔
- لنگر رضویہ کی مد میں حاصل ہونے والے عطیات اور دیگر اشیاء کا مکمل ریکارڈ بنانا۔
- لنگر رضویہ کی مد میں حاصل ہونے والے تمام عطیات و دیگر اشیاء کا حساب فنانس ڈیپارٹمنٹ کو دینا۔

7.3. ڈونیشن کاؤنٹر

- اعتکاف کے مقام پر خارج مسجد یا مسجد کے قریب کسی مقام پر ڈونیشن سیل ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے ڈونیشن کاؤنٹر لگوانا۔
- ڈونیشن کاؤنٹر کے لئے پیشگی ذمہ دار کا تقرر کرنا، ضرورتاً اجیر رکھنے کی صورت میں نگران مجلس ڈونیشن سیل کی مشاورت سے لوازمات مکمل کرنا۔
- ڈونیشن کاؤنٹر کے لئے ضروری سامان کی فراہمی یقینی بنانا اور اس کی حفاظت کرنا۔
- روزانہ کی بنیاد پر ڈونیشن کاؤنٹر / ڈونیشن باکس کا جائزہ لینا۔
- حتی الامکان ڈونیشن کاؤنٹر پر آنے والے عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے شعبہ جات بالخصوص قریبی اعتکاف کے متعلق معلومات فراہم کرنا۔
- ڈونیشن کاؤنٹر پر عطیات بڑھانے کی ترکیب کروانا۔ (اس کے لیے قریبی دوکانداروں اور

اہل علاقہ سے ملاقات و انفرادی کوشش وغیرہ کرنا)

• ڈونیشن کاؤنٹر سے متعلقہ مسائل بروقت حل کروانا۔

• ڈونیشن کاؤنٹر پر موصول ہونے والے عطیات بروقت فنانس میں جمع کروانا اور روزانہ حساب کلیئر کروانا۔

8. رابطہ برائے شخصیات

• پولیس، سیاست دان، سرکاری اداروں سے وابستہ افراد / آفیسرز و دیگر بااثر شخصیات سے ملاقات و انفرادی کوشش کے ذریعے انہیں رمضان اعتکاف کروانا۔

• شعبہ رابطہ برائے شخصیات سے وابستہ سرکاری افسران و شخصیات کو مختلف اوقات میں پیشگی اطلاع کے ساتھ اعتکاف کا وزٹ کروانا (بالخصوص سیکھنے سکھانے کے حلقوں کے دوران، افطار اجتماع، اجتماع شب قدر وغیرہ میں)۔

• فائر اینڈ سیفٹی نظام بنانا اور اس پر عملدرآمد کروانا۔

• کسی امیر جنسی / ہنگامی صورت میں فوراً متعلقہ اداروں کے ذریعے حل کرنا۔

9. ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرہ

نوٹ: مجلس ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرہ کے تحت 3 ذیلی مجالس بنائی جائیں گی۔

(1) افطار اجتماعات (2) لائیو مدنی مذاکرے (3) رمضان کے ہفتہ وار اجتماعات۔

9.1. افطار اجتماع:

• افطار اجتماع کے انتظامات کروانا۔

• جن شعبہ جات کی افطار اجتماع میں شرکت ہو، انہیں کم و بیش 3 دن پہلے یاد دہانی کروانا۔

- افطار اجتماع میں آنے والوں کی متعلقہ شعبہ ذمہ دار سے تعداد لینا اور مجلس لنگرِ رضویہ کو پیشگی اطلاع کرنا۔ (تا کہ اس تعداد کے مطابق افطاری و کھانے کا اہتمام کیا جاسکے)۔
- شعبہ جات کی شخصیات (ڈاکٹرز، پروفیسرز، سرکاری افسران وغیرہ) کے مطابق ان کے بیٹھنے و افطاری کا پیشگی انتظام کروانا۔
- تحائف میں تقسیم رسائل / تسبیح کا ونٹرو غیرہ کا پیشگی انتظام کروانا۔ شعبہ جات کے تعارف پر مشتمل اپڈیٹ بروشر تقسیم کرنا۔
- افطار اجتماع میں شعبہ جات کے بستوں کے مقام انتظامی امور کے ذریعے فکس کروانا۔

9.2. ہفتہ وار مدنی مذاکرہ

- معتکفین کو اجتماعی لائیو مدنی مذاکرہ دکھانے کا اہتمام کرنا۔
- 1 ماہ اعتکاف کے مقامات پر ابتدائی 19 دنوں میں خارج مسجد ویڈیو (Video) مدنی مذاکروں اور آخری عشرے میں صرف آڈیو (Audio) مدنی مذاکروں میں معتکفین کی شرکت کروانا۔
- موسم کے مطابق ضروری انتظامات مکمل کرنا۔ مثلاً بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ، لائٹ، UPS، LCD اور انٹرنیٹ وغیرہ۔
- اجتماعی مدنی مذاکرے میں مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران و عاشقانِ رسول کی شرکت کروانا۔
- معتکفین سے سوالات ریکارڈ کروا کر شعبہ مدنی چینل کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق مجلس مدنی چینل کو بھیجنا۔
- حلقہ نگران کے ذریعے معتکفین کی روزانہ کے مدنی مذاکروں کی کارکردگی لینا۔

9.3. ہفتہ وار اجتماع

- معتکفین کو ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کروانا۔
- ہفتہ وار اجتماع میں حلقہ وائز اسلامی بھائیوں کو بیٹھنے کی ترغیب دلانا۔
- انتظامی مجلس کے ذریعے ضرورتاً کرسیوں کا انتظام کروانا۔
- معتکفین کے ذریعے ان کے والدین، بھائی، سرپرست و دیگر رشتہ دار عاشقانِ رسول کی شرکت کروانے کی کوشش کرنا اور اسکی کارکردگی لینا۔
- ہفتہ وار اجتماع میں شعبہ جات (مثلاً قافلہ، اصلاحِ اعمال، شعبہ تعلیم، مدرسۃ المدینہ بالغان، روحانی علاج وغیرہ) کے اسٹالز (Stall) مخصوص جگہ پر لگوانا۔

10. مجلس کارکردگی

10.1. اعتکاف سے متعلقہ کارکردگیاں

- اعتکاف میں ہونے والے مختلف کاموں کی کارکردگی مثلاً (مدنی مذاکرے، تربیتی حلقے، مختلف دینی تحریکیں، تہجد، اشراق و چاشت، 26 ویں شریف کے ایصالِ ثواب وغیرہ) اعتکاف نگران سے وصول کرنا۔
- معتکفین سے جمع ہونے والے رمضان عطیات (زکوٰۃ، فطرہ، صدقاتِ نافلہ وغیرہ) کی کارکردگی جمع کرنا۔
- معتکفین سے جو جو کارکردگیاں لینا طے ہیں، تمام کارکردگیاں لینا۔
- اعتکاف کی برکت سے دعوتِ اسلامی کے تعلیمی اداروں (جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی وغیرہ) میں داخلہ لینے والوں کی اعتکاف نگران سے کارکردگی لینا۔

تمام کارکردگیاں اپنے متعلقہ نگران کو بروقت پیش کرنا۔

10.2. فیڈبیک

اعتکاف سے متعلق شکایات و تجاویز وصول کرنے کے لئے نمایاں مقام پر فیڈبیک بکس رکھوانا۔

اعتکاف حلقہ نگرانوں کو فیڈبیک فارم دے کر پُر کرنے کے متعلق رہنمائی کرنا۔

موصول ہونے والے مسائل و تجاویز کی لسٹ تیار کرنا۔

شکایات و تجاویز کا جائزہ لے کر حل کرنا/ کروانا۔

مسائل کے حل اور تجاویز پر عمل درآمد کے حوالے سے اعتکاف نگران و ضرورتاً اعتکاف مجالس سے مشاورت کرنا۔

مسائل حل کرنے کے بعد ضرورتاً متعلقہ عاشقان رسول کو آگاہ کرنا۔ (جس نے شکایت کی ہو/ تجویز دی ہو)

10.3. 26 ویں کی نیتیں

26 رمضان یوم ولادتِ امیر اہل سنت (مولانا الیاس قادری دامت بَرَکاتُہُمُ الْعَالِیَہ) کے موقع پر حلقوں میں 26 ویں شریف کے حوالے سے آگاہی دینا۔

26 ویں شریف کے طے شدہ نیت فارم پر موجود نیتیں معتکفین کو پڑھ کر سنانا اور عاشقان رسول کو مزید اچھی اچھی نیتیں کروانا۔

حلقہ نگران کے ذریعے معتکفین کی نیتیں وصول کرنا اور اعتکاف نگران کو 24 رمضان

المبارک تک پیش کرنا۔ اعتکاف نگران 24 رمضان کو ہی یہ نیتیں مجلس کارکردگی کو جمع کروادیں۔

10.4. ڈیٹا انٹری

- 1 ماہ / آخری عشرہ اعتکاف کرنے والوں کو کارڈ جاری کرنے کے لئے اعتکاف نگران سے مختلفین کی تعداد، نام، نمبر، ایڈریس وغیرہ لینا۔
- مختلفین کی تعداد کے مطابق ڈیٹا انٹری سے متعلقہ سامان (کمپیوٹر، ٹیبل، انٹرنیٹ، کرسی، پرنٹر، لیمینیشن مشین، کٹر وغیرہ) کی بروقت دستیابی کو یقینی بنانا۔
- سوفٹ ویئر میں انٹری سے پہلے تمام تزلوازمات مثلاً اصل شناختی کارڈ / والد / سرپرست کے شناختی کارڈ کی کاپی، سٹی / ٹاؤن / تحصیل / یوسی نگران کی تصدیق، شناختی کارڈ کے مطابق فارم پر درج کی گئی معلومات اور تصدیق مجلس کے دستخط وغیرہ کو چیک کرنا۔
- تصدیق مجلس سے ملنے والے ریکارڈ کے مطابق مکمل معلومات سوفٹ ویئر میں درست اور مکمل اندراج کرنا۔
- تمام مختلفین کو ترتیب و حلقہ وائز کارڈ فراہم کرنا۔
- ڈیٹا انٹری کے دوران آنے والے مسائل سے اپنے متعلقہ نگران کو بروقت مطلع کرنا۔

اعتکاف جدول ایک نظر میں

(1 ماہ اعتکاف / آخری عشرہ اعتکاف 1447ھ / 2026ء)

نماز تہجد و سحری: ہر اعتکاف کی تعداد کے مطابق ختم سحری کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے نماز تہجد و سحری۔

بعد فجر: ﴿تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، کم از کم 3 آیات کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر صراط الجنان (7 منٹ تفسیر + 5 منٹ درس)﴾ ﴿بیان (26 منٹ)﴾ ﴿شجرہ شریف کے اشعار اور اُس کے اوراد (7 منٹ)﴾ ﴿رسالہ نیکیوں کے ثوابات (5 منٹ)﴾ ﴿دعا یاد کرنے کا حلقہ (10 منٹ)﴾ ﴿اشراق و چاشت﴾ وقفہ آرام۔

وقفہ آرام کے بعد: ﴿تلاوت و نعت (12 منٹ)﴾ ﴿مدرسۃ المدینہ بالغان (38 منٹ)﴾ ﴿اذکار نماز (20 منٹ)﴾

نماز ظہر کے بعد: ﴿اجتماعی حلقے میں درس (7 منٹ)﴾ ﴿احکام نماز کا حلقہ (45 منٹ)﴾ ﴿گناہوں کے عذابات (5 منٹ) سنتیں اور آداب (20 منٹ)﴾ ﴿12 دینی کام (15 منٹ / 12 دینی کام کتاب)﴾ ﴿شعبہ جات اور ایپ کا تعارف (5 منٹ)﴾ ﴿درس سکھانے اور درس دلوانے کا حلقہ (10 منٹ)﴾ ﴿نیک اعمال کا جائزہ (5 منٹ)﴾ ﴿کارکردگی جمع کرنا (5 منٹ)﴾

وقفہ آرام: اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل

بعد عصر: مدنی مذاکرہ / 25 منٹ بیان اور دعائے افطار

بعد مغرب: سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ

بعد تراویح: ﴿مدنی مذاکرہ﴾ ﴿جنت راتوں میں نعت خوانی﴾ ﴿طاق راتوں میں صلوة التبیح

توجہ فرمائیں: 1 ماہ اعتکاف میں پہلے 19 دن مسجد و فنائن مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پر لائیو

مدنی مذاکرہ اور آخری عشرے میں صرف آڈیو مدنی مذاکرہ۔

اعتکاف جدول کے لئے رہنما کتب و رسائل

نوٹ: کتب و رسائل کے ناموں کے ساتھ کیو آر کوڈ (QR Code) بھی دیئے گئے ہیں، انہیں اسکین کر کے کتاب / رسالہ ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ (ویب ایڈیشن میں اس پر کلک کریں)

<p>صراط الجنان جلد ششم</p> 	<p>صراط الجنان جلد پنجم</p> 	<p>صراط الجنان جلد نہم</p> 
<p>گفتگو کے آداب</p> 	<p>صراط الجنان جلد دہم</p> 	<p>فیضانِ نماز</p> 
<p>غیبت کی تباہ کاریاں</p> 	<p>فیضانِ رمضان</p> 	<p>فیضانِ بیاناتِ عطار</p> 
<p>مدنی قاعدہ</p> 	<p>نیکی کی دعوت</p> 	<p>12 دینی کام</p> 

<p>نیکیوں کے ثوابات</p> 	<p>قرآن سیکھے حصہ 1</p> 	<p>گناہوں کے عذابات (حصہ 1)</p> 
<p>مسافر کی نماز</p> 	<p>گناہوں کے عذابات (حصہ 2)</p> 	<p>وضو کا طریقہ</p> 
<p>فیضانِ اذان</p> 	<p>غسل کا طریقہ</p> 	<p>قضا نمازوں کا طریقہ</p> 
<p>جوشِ ایمانی</p> 	<p>نماز کا طریقہ</p> 	<p>شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ</p> 

<p>نمازِ جنازہ کا طریقہ</p> 	<p>کپڑے پاک کرنے کا طریقہ</p> 	<p>نمازِ عید کا طریقہ</p> 
<p>550 سنتیں اور آداب</p> 	<p>حسینی دُولہا</p> 	<p>حقوق العباد کی احتیاطیں</p> 
<p>فیضانِ لیلۃ القدر</p> 	<p>کرسی پر نماز</p> 	<p>امیر اہلسنت کی دعائیں</p> 
	<p>ہر صحابی نبی جنتی جنتی</p> 	<p>بے حساب مغفرت کے اعمال</p> 

آخری عشرے کے اعتکاف کا تفصیلی جدول

﴿20﴾ رمضان المبارک

بعدِ عصر	بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
----------	-------------------------------------

بیان: فیضانِ اعتکاف (فیضانِ رمضان ص 227 تا 230) + سنت اعتکاف کی نیت (فیضانِ رمضان ص 233 تا 236) (دورانیہ: 25 منٹ)

	بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
--	---

بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام

	بعدِ عشاء مدنی مذاکرہ
--	-----------------------

بعدِ تراویح مدنی مذاکرہ

﴿21﴾ رمضان المبارک

بعدِ فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
----------	--------------------------

تفسیر: پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت 26 تا 30 (7 منٹ)

درس: شبِ قدر بدلتی رہتی ہے (فیضانِ رمضان ص 199 تا 202) (5 منٹ)

بیان: مولیٰ علی کی شان اور قرآن (ہفتہ وار اجتماع کا بیان 2025-03-21) (26 منٹ)

اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)

رسالہ نیکیوں کے ثوابات: ذکر اللہ کرنے کا ثواب (ص 99 تا 103) (5 منٹ)

بعدِ فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
----------	----------------------

زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 71)

(دورانیہ: 10 منٹ)

(12:00 تا 12:12)	تلاوت و نعت
دورانیہ: 12 منٹ	
(12:12 تا 12:50)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
سبق نمبر 1 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 156 تا 158) (دورانیہ: 38 منٹ)	
(12:51 تا 01:10)	اذکارِ نماز
تکبیر تحریمہ، ثناء (دورانیہ: 20 منٹ)	
بعدِ ظہر	درس
کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:00 تا 02:45)	احکام نماز
رسالہ: وضو کا طریقہ (اڈیٹ)، ص 6 تا 11۔ (دورانیہ: 45 منٹ)	
(02:46 تا 03:10)	گناہوں کے عذابات + 550 سنیتیں اور آداب
ظلم (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 15) (دورانیہ: 5 منٹ) عیادت کی 33 سنیتیں اور آداب (550 سنیتیں اور آداب، ص 72) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:11 تا 03:25)	12 دینی کام
مطالعہ کے دینی و دنیوی فوائد (کتاب 12 دینی کام، ص 430 تا 443) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:26 تا 3:30)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
دینی کاموں والے شعبہ جات (قافلہ، اصلاح اعمال، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی کورسز) (دورانیہ: 5 منٹ)	

(03:40 تا 03:31)

درس سکھائیں اور دلوائیں

فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)

(03:45 تا 03:41)

نیک اعمال کا جائزہ

حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)

(03:50 تا 03:46)

کار کردگی لینا

اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کار کردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)

(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)

وقفہ آرام

(دورانیہ: 45 منٹ)

بعدِ عصر

بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع

بیان: آخرت کی تیاری (کتاب فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 437) (دورانیہ: 25 منٹ)

بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ

بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام

بعدِ عشاء مدنی مذاکرہ

بعدِ تراویح مدنی مذاکرہ + صلوٰۃ التسخیر باجماعت

﴿22﴾ رمضان المبارک

بعدِ فجر

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ

تفسیر: پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت 31 تا 33 (7 منٹ)

درس: مکروہاتِ روزہ (فیضانِ رمضان ص 138 تا 141) (5 منٹ)

بیان: ایثار (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 463) (26 منٹ)

اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)

رسالہ نیکیوں کے ثوابات: سنت پر عمل کا ثواب (ص 103 تا 107) (5 منٹ)

بعدِ فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
----------	----------------------

نیالباس پہننے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص: 74) (دورانیہ: 10 منٹ)

تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
-------------	------------------

دورانیہ: 12 منٹ

مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
--	------------------

سبق نمبر 2 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 163 تا 164)

(دورانیہ: 38 منٹ)

اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
-------------	------------------

تعویذ و تسمیہ (دورانیہ: 20 منٹ)

درس	بعدِ ظہر
-----	----------

کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)

احکامِ نماز	(02:00 تا 02:45)
-------------	------------------

رسالہ: غسل کا طریقہ (اپڈیٹ) ص 3 تا 6۔ تیمم کا بیان (غسل کا طریقہ ص 20)

(دورانیہ: 45 منٹ)

گناہوں کے عذابات + 550 سننیں اور آداب	(03:10 تا 02:46)
---------------------------------------	------------------

فرض علم نہ سیکھنا (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 18) (دورانیہ: 5 منٹ)

سفر کی 35 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 68) (دورانیہ: 20-25 منٹ)

12 دینی کام + امیر اہلسنت کی دعائیں (03:11 تا 03:25)

نیک اعمال (کتاب 12 دینی کام، ص 453 تا 461)

دُعائے عطار: دینی کام نیک اعمال (امیر اہلسنت کی دعائیں: ص 12) (دورانیہ: 15 منٹ)

شعبہ جات + ایپ کا تعارف (3:26 تا 3:30)

Dawateislami.net+Dawateislami.org+Ilyasqadri.com

(دورانیہ: 5 منٹ)

درس سکھائیں اور دلوائیں (03:31 تا 03:40)

فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)

نیک اعمال کا جائزہ (03:41 تا 03:45)

حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)

کارکردگی لینا (03:46 تا 03:50)

اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)

وقفہ آرام (اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)

(دورانیہ: 45 منٹ)

بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع بعدِ عصر

بیان: اصلاحِ معاشرہ (کتاب فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 529) (دورانیہ: 25 منٹ)

بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ

بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام

بعدِ عشاءِ مدنی مذاکرہ

بعدِ تراویحِ مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی

﴿23﴾ رمضان المبارک

بعدِ فجر

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ

تفسیر: پارہ 15، سورۃ الکہف، آیت 9 تا 12 (7 منٹ)
 درس: غیبت کی تعریف (غیبت کی تباہ کاریاں ص 30 تا 33) (5 منٹ)
 بیان: اخلاص (فیضانِ بیاناتِ عطار، ص 487) (26 منٹ)
 اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)
 رسالہ نیکیوں کے ثوابات: شکر کا ثواب (ص 108 تا 112) (5 منٹ)

بعدِ فجر

دعا یاد کرنے کا حلقہ

ایمان پر خاتمے کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 1، ص 82) (دورانیہ: 10 منٹ)

(12:00 تا 12:12)

تلاوت و نعت

دورانیہ: 12 منٹ

(12:12 تا 12:50)

مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)

سبق نمبر 3 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 170 تا 171)

(دورانیہ: 38 منٹ)

(01:10 تا 12:51)

اذکارِ نماز

سورۃ فاتحہ (دورانیہ: 20 منٹ)

بعدِ ظہر	درس
کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)	
(02:45 تا 02:00)	احکام نماز
قضا نمازوں کا طریقہ (ص 11 تا 14 اور 17 تا 20) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	حقوق کے متعلق اہم معلومات + 550 سنئیں اور آداب
اولاد کے حقوق (حقوق کے متعلق اہم معلومات) (دورانیہ: 5 منٹ) + انگلوٹھی کے بارے میں 19 سنئیں اور آداب (550 سنئیں اور آداب، ص 57) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
حساب سے پہلے حساب کی تیاری (کتاب 12 دینی کام، ص 462 تا 473) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
تفاسیر: صراط الجنان + تعلیم القرآن + معرفۃ القرآن (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	

بعدِ عصر	بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
----------	-------------------------------------

بیان: رسالہ: قبر کی ہولناکیاں (ہفتہ وار رسالہ نمبر 327) (دورانیہ: 25 منٹ)

بعدِ مغرب	مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
-----------	--

بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام

بعدِ عشاء	مدنی مذاکرہ
-----------	-------------

بعدِ تراویح مدنی مذاکرہ + صلوٰۃ التسخیر باجماعت

﴿24﴾ رمضان المبارک

بعدِ فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
----------	--------------------------

تفسیر: پارہ 16، سورہ مریم، آیت 54 تا 56 (7 منٹ)

درس: مُردار خور جہنمی (غیبت کی تباہ کاریاں ص 45 تا 48) (5 منٹ)

بیان: بے حساب مغفرت کے اعمال (قسط 1) (ہفتہ وار رسالہ نمبر: 428) (26 منٹ)

اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)

رسالہ نیکیوں کے ثوابات: توبہ کا ثواب (ص 113 تا 118) (5 منٹ)

بعدِ فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
----------	----------------------

سواری کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 4) (دورانیہ: 10 منٹ)

تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
-------------	------------------

دورانیہ: 12 منٹ

مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
--	------------------

سبق نمبر 4 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 176 تا 177)

(دورانیہ: 38 منٹ)

اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
سورۃ اخلاص (دورانیہ: 20 منٹ)	
درس	بعدِ ظہر
کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)	
احکامِ نماز	(02:45 تا 02:00)
نماز کی 6 شرائط (نماز کا طریقہ ص 14 تا 22) (دورانیہ: 45 منٹ)	
گناہوں کے عذابات + 550 سنئیں اور آداب	(03:10 تا 02:46)
جو (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 25) (دورانیہ: 5 منٹ) + کفن کی 16 سنئیں اور آداب (550 سنئیں اور آداب، ص 77) (دورانیہ: 20-25 منٹ)	
12 دینی کام	(03:25 تا 03:11)
قافلہ (کتاب 12 دینی کام، ص 505 تا 515) دُعائے عطار: دینی کام قافلہ (امیر اہلسنت کی دعائیں: ص 13) (دورانیہ: 15 منٹ)	
شعبہ جات + ایپ کا تعارف	(3:30 تا 3:26)
Islam For Ever + Kids Land (دورانیہ: 5 منٹ)	
درس سکھائیں اور دلوائیں	(03:40 تا 03:31)
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
نیک اعمال کا جائزہ	(03:45 تا 03:41)
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
کارکردگی لینا	(03:50 تا 03:46)
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	

وقفہ آرام	(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعدِ عصر	بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: یومِ ولادتِ امیرِ اہلسنت کا بیان (1446ھ/2025ء) (دورانیہ: 25 منٹ)	
بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعدِ عشاء مدنی مذاکرہ	
بعدِ تراویح مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی	
﴿25﴾ رمضان المبارک	
تفسیر سننے سنانے کا حلقہ	بعدِ فجر
تفسیر: پارہ 26، سورہ حُجُرَات، آیت 7 تا 10 (7 منٹ)	
درس: حُوریں پانے کا عمل (غیبت کی تباہ کاریاں ص 101 تا 104) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: حُسینی دُولہا (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: معاف کرنے کا ثواب (ص 119 تا 122) (5 منٹ)	
دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
عیادت کرتے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 24) (دورانیہ: 10 منٹ)	
تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
دورانیہ: 12 منٹ	

(12:50 تا 12:12)	مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)
------------------	--

سبق نمبر 5 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 182 تا 183)

(دورانیہ: 38 منٹ)

(01:10 تا 12:51)	اذکارِ نماز
------------------	-------------

رکوع و سجود کی تسبیحات (دورانیہ: 20 منٹ)

بعدِ ظہر	درس
----------	-----

کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)

(02:45 تا 02:00)	احکامِ نماز
------------------	-------------

نماز کے 7 فرائض (نماز کا طریقہ ص 22 تا 32) (دورانیہ: 45 منٹ)

(03:10 تا 02:46)	گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب
------------------	---------------------------------------

حرام مال (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 28) (دورانیہ: 5 منٹ) + قبرستان حاضری کی

21 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 87) (دورانیہ: 20-25 منٹ)

(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
------------------	-------------

قالے میں سفر کے 14 فضائل و فوائد (کتاب 12 دینی کام، ص 515 تا 527) (دورانیہ: 15 منٹ)

(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
----------------	-------------------------

دعوتِ اسلامی کا تعارف (دورانیہ: 5 منٹ)

(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
------------------	-------------------------

فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)

(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعدِ عصر	بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: رسالہ: ہر صحابی نبی جنتی جنتی (دورانیہ: 25 منٹ)	
	بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
	بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام
	بعدِ عشاء مدنی مذاکرہ
	بعدِ تراویح مدنی مذاکرہ + صلوٰۃ التسخیر باجماعت
﴿26﴾ رمضان المبارک	
بعدِ فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 28، سورہ حشر، آیت 21 تا 24 (7 منٹ)	
درس: خاموشی کی فضیلت (گفتگو کے آداب، ص 79 تا 82) (5 منٹ)	
بیان: رسالہ: حقوق العباد کی احتیاطیں (تذکرہ امیر اہلسنت قسط 6) (26 منٹ)	
اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)	
رسالہ نیکیوں کے ثوابات: صلح کروانے کا ثواب (ص 122 تا 125) (5 منٹ)	

بعدِ فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
----------	----------------------

شبِ قدر کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 37) (دورانیہ: 10 منٹ)

تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
-------------	------------------

دورانیہ: 12 منٹ

مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
---	------------------

سبق نمبر 6 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 188 تا 189) (دورانیہ: 38 منٹ)

اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
-------------	------------------

تشہد (دورانیہ: 20 منٹ)

درس	بعدِ ظہر
-----	----------

کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)

احکامِ نماز	(02:00 تا 02:45)
-------------	------------------

نماز کا طریقہ (نماز کا طریقہ ص 8 تا 13) + Practical (دورانیہ: 45 منٹ)

گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب	(02:46 تا 03:10)
---------------------------------------	------------------

ناحق یتیم کا مال کھانا (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 31) (دورانیہ: 5 منٹ) + تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کی 19 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 43) (20-25 منٹ)

12 دینی کام + امیر اہلسنت کی دعائیں	(03:11 تا 03:25)
-------------------------------------	------------------

مدنی کورسز (کتاب 12 دینی کام، ص 564 تا 571) دُعائے عطار: دینی کام مدنی کورسز

(امیر اہلسنت کی دعائیں: ص 14) (دورانیہ: 15 منٹ)

(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
پاکستان مشاورت آفس (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعدِ عصر	بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: فیضانِ لیلۃُ القدر (ہفتہ وار رسالہ نمبر 397) (دورانیہ: 25 منٹ)	
	بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ
	بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام
	بعدِ عشاء مدنی مذاکرہ
	بعدِ تراویح مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی
﴿27﴾ رمضان المبارک	
بعدِ فجر	تفسیر سننے سنانے کا حلقہ
تفسیر: پارہ 30، سورہ ضحیٰ، آیت 1 تا 5 (7 منٹ)	

درس: زبان کی آفتیں (گفتگو کے آداب، ص 104 تا 107) (5 منٹ)

بیان: رسالہ: جوشِ ایمانی (26 منٹ)

اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)

رسالہ نیکیوں کے ثوابات: پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب (ص 26 تا 29) (5 منٹ)

بعدِ فجر	دعا یاد کرنے کا حلقہ
----------	----------------------

کفر و فقر سے پناہ کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 31) (دورانیہ: 10 منٹ)

تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
-------------	------------------

دورانیہ: 12 منٹ

مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)	(12:12 تا 12:50)
--	------------------

سبق نمبر 7 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 195 تا 197)

(دورانیہ: 38 منٹ)

اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
-------------	------------------

دروود ابراہیمی (دورانیہ: 20 منٹ)

درس	بعدِ ظہر
-----	----------

کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)

احکامِ نماز	(02:45 تا 02:00)
-------------	------------------

رسالہ نمازِ جنازہ کا طریقہ (ص 1 تا 12) (دورانیہ: 45 منٹ)

گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب	(03:10 تا 02:46)
---------------------------------------	------------------

چوری (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 34) (دورانیہ: 5 منٹ) مسواک کی 22 سنتیں اور

آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 47) (دورانیہ: 20-25 منٹ)

12 دینی کام	(03:25 تا 03:11)
مدنی کورسز (کتاب 12 دینی کام، ص 572 تا 581) (دورانیہ: 15 منٹ)	
شعبہ جات + ایپ کا تعارف	(3:30 تا 3:26)
جامعۃ المدینہ بوائز + نائٹ کلاسز کا تعارف (دورانیہ: 5 منٹ)	
درس سکھائیں اور دلوائیں	(03:40 تا 03:31)
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
نیک اعمال کا جائزہ	(03:45 تا 03:41)
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
کارکردگی لینا	(03:50 تا 03:46)
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
وقفہ آرام	(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعدِ عصر	بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع
بیان: ایمان کی حفاظت (ہفتہ وار اجتماع کا بیان) دیکھئے (islamic Speeches app)	
(دورانیہ: 25 منٹ)	
بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ	
بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام	
بعدِ عشاء مدنی مذاکرہ	
بعدِ تراویح مدنی مذاکرہ + صلوٰۃ التسخیر باجماعت	

﴿28﴾ رمضان المبارک

بعدِ فجر

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ

تفسیر: پارہ 30، سورہٴضحیٰ، آیت 6 تا 11 (7 منٹ)

درس: خوفِ خدا سے وفات (فیضانِ رمضان ص 216 تا 219) (5 منٹ)

بیان: بُری صحبت کا وبال (ہفتہ وار اجتماع کا بیان / دیکھئے islamic Speeches app) (26 منٹ)

اورادو وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)

رسالہ نیکیوں کے ثوابات: صفیں دُرست کرنے کا ثواب (ص 30 تا 34) (5 منٹ)

بعدِ فجر

دعا یاد کرنے کا حلقہ

دُرودِ شفاعت (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 59) (دورانیہ: 10 منٹ)

(12:00 تا 12:12)

تلاوت و نعت

دورانیہ: 12 منٹ

(12:12 تا 12:50)

مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)

سبق نمبر 8 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھئے حصہ 1، ص 203 تا 204)

(دورانیہ: 38 منٹ)

(01:10 تا 12:51)

اذکارِ نماز

دعائے ماثورہ و سلام (دورانیہ: 20 منٹ)

بعدِ ظہر

درس

کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)

(02:45 تا 02:00)	احکام نماز
رسالہ: مسافر کی نماز (ص 1 تا 15) (دورانیہ: 45 منٹ)	
(03:10 تا 02:46)	حقوق کے متعلق اہم معلومات + 550 سنتیں اور آداب
اپنی جان کے حقوق (حقوق کے متعلق اہم معلومات) (دورانیہ: 5 منٹ) + زلفوں اور سر کے بالوں کی 22 سنتیں اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 40) (20-25 منٹ)	
(03:25 تا 03:11)	12 دینی کام
معلوماتی سوالات (کتاب 12 دینی کام، ص 581 تا 592) (دورانیہ: 15 منٹ)	
(3:30 تا 3:26)	شعبہ جات + ایپ کا تعارف
حج و عمرہ + ایپ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:40 تا 03:31)	درس سکھائیں اور دلوائیں
فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)	
(03:45 تا 03:41)	نیک اعمال کا جائزہ
حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)	
(03:50 تا 03:46)	کارکردگی لینا
اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)	
(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)	وقفہ آرام
(دورانیہ: 45 منٹ)	
بعدِ عصر	بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع

بیان: جہنم کی وادی ویل کے حقدار کون؟ (ہفتہ وارا اجتماع کا بیان / دیکھئے islamic Speeches app) (دورانیہ: 25 منٹ)

بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ

بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام

بعدِ عشاء مدنی مذاکرہ

بعدِ تراویح مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی

﴿29﴾ رمضان المبارک

بعدِ فجر

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ

تفسیر: پارہ 30، سورہ قارعہ: مکمل سورت (7 منٹ)

درس: الوداع ماہِ رمضان (فیضانِ رمضان ص 207 تا 210) (5 منٹ)

بیان: فیضانِ عید الفطر (فیضانِ رمضان ص 295 تا 310) (26 منٹ)

اوراد و وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)

رسالہ نیکیوں کے ثوابات: نماز جمعہ کا ثواب (ص 34 تا 38) (5 منٹ)

بعدِ فجر

دعا یاد کرنے کا حلقہ

وضو کے بعد کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 80) (دورانیہ: 10 منٹ)

(12:00 تا 12:12)

تلاوت و نعت

دورانیہ: 12 منٹ

(12:50 تا 12:12)

مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھے)

سبق نمبر 9 (مدنی قاعدہ) + ایک آیت کی تفسیر (کتاب: قرآن سیکھے حصہ 1، ص 210 تا 211)

(دورانیہ: 38 منٹ)

(01:10 تا 12:51)

اذکارِ نماز

دعائے قنوت (دورانیہ: 20 منٹ)

بعدِ ظہر

درس

کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)

(02:45 تا 02:00)

احکامِ نماز

رسالہ: نمازِ عید کا طریقہ (ص 1 تا 8) پر کیٹیکل بھی کروائیں۔ (دورانیہ: 45 منٹ)

(03:10 تا 02:46)

گناہوں کے عذابات + 550 سنیتیں اور آداب

دیُوٹی (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 60) (دورانیہ: 5 منٹ)

عقیقے کے 25 سنیتیں اور آداب (550 سنیتیں اور آداب، ص 59) (دورانیہ: 20-25 منٹ)

(03:25 تا 03:11)

12 دینی کام + امیر اہلسنت کی دعائیں

12 دینی کاموں کی تنظیمی ذمہ داریاں دی جائیں (نام اور ذمہ داری لکھی جائے) دُعائے

عطار: (امیر اہلسنت کی دعائیں: ص 1) (دورانیہ: 15 منٹ)

(3:30 تا 3:26)

شعبہ جات + ایپ کا تعارف

اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کا مکمل تعارف + شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنوں کا

ضمنی تعارف + فیضان صحابیات (دورانیہ: 5 منٹ)

(03:40 تا 03:31)

درس سکھائیں اور دلوائیں

فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)

(03:45 تا 03:41)

نیک اعمال کا جائزہ

حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)

(03:50 تا 03:46)

کارکردگی لینا

اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)

(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)

وقفہ آرام

(دورانیہ: 45 منٹ)

بعدِ عصر

بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع

بیان: الوداع ماہِ رمضان (کتاب فیضانِ رمضان ص 207 تا 214) (دورانیہ: 25 منٹ)

بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ

بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام

بعدِ عشاء مدنی مذاکرہ

بعدِ تراویح مدنی مذاکرہ + صلوة التسخیر باجماعت

﴿30﴾ رمضان المبارک

بعدِ فجر

تفسیر سننے سنانے کا حلقہ

تفسیر: پارہ 30 سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس (7 منٹ)

درس: کیا میری زندگی کا بھروسہ (فیضانِ رمضان ص 212 تا 216) (5 منٹ)

بیان: فیضانِ عید الفطر (فیضانِ رمضان ص 11 تا 323) (26 منٹ)

اورادو وظائف: شجرہ کے اشعار و اوراد (7 منٹ)

رسالہ نیکیوں کے ثوابات: دُرودِ پاک کا ثواب (ص 58 تا 63) (5 منٹ)

دعا یاد کرنے کا حلقہ	بعدِ فجر
----------------------	----------

آبِ زم زم پیتے وقت کی دعا (رسالہ: گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص: 83) (دورانیہ: 10 منٹ)

تلاوت و نعت	(12:00 تا 12:12)
-------------	------------------

دورانیہ: 12 منٹ

مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدہ + قرآن سیکھئے)	(12:12 تا 12:50)
---	------------------

سبق نمبر 10 (مدنی قاعدہ) + آخری 10 سورتیں یاد کروائی جائیں (دورانیہ: 38 منٹ)

اذکارِ نماز	(01:10 تا 12:51)
-------------	------------------

(ان الفاظ کی درست ادائیگی: ان شاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر (دورانیہ:

20 منٹ)

درس	بعدِ ظہر
-----	----------

کتاب فیضانِ نماز (دورانیہ: 7 منٹ)

احکامِ نماز	(02:45 تا 02:00)
-------------	------------------

رسالہ: فیضانِ اذان (ص 4 تا 14) (دورانیہ: 45 منٹ)

گناہوں کے عذابات + 550 سنتیں اور آداب	(03:10 تا 02:46)
---------------------------------------	------------------

بے پردگی (گناہوں کے عذابات، حصہ 2، ص 63) (دورانیہ: 5 منٹ) پانی پینے کی 13 سنتیں

اور آداب (550 سنتیں اور آداب، ص 16) (دورانیہ: 20-25 منٹ)

(03:25 تا 03:11)

12 دینی کام

12 دینی کاموں کی تنظیمی ذمہ داریاں دی جائیں (نام اور ذمہ داری لکھی جائے) (دورانیہ: 15 منٹ)

(3:30 تا 3:26)

شعبہ جات + ایپ کا تعارف

اپیشیل پر سنز (دورانیہ: 5 منٹ)

(03:40 تا 03:31)

درس سکھائیں اور دلوائیں

فیضانِ سنت کے باب نیکی کی دعوت سے درس سکھائیں اور دلوائیں (دورانیہ: 10 منٹ)

(03:45 تا 03:41)

نیک اعمال کا جائزہ

حلقوں میں نیک اعمال کا جائزہ (دورانیہ: 5 منٹ)

(03:50 تا 03:46)

کارکردگی لینا

اعتکاف مجلس کی طرف سے طلب کردہ کارکردگی جمع کرنا (دورانیہ: 5 منٹ)

(اذانِ عصر سے 45 منٹ قبل)

وقفہ آرام

(دورانیہ: 45 منٹ)

بعدِ عصر

بعدِ عصر مدنی مذاکرہ / افطار اجتماع

بیان: الوداع ماہِ رمضان (کتاب فیضانِ رمضان ص 214 تا 225) (دورانیہ: 25 منٹ)

بعدِ مغرب سورہ ملک کی تلاوت اور کھانے کا وقفہ

بعدِ مغرب حلقوں میں سورہ ملک و طعام

بعدِ عشاء مدنی مذاکرہ

مدنی مذاکرہ + 30 منٹ نعت خوانی

افطار اجتماع کا جدول (رمضان المبارک 1447ھ / 2026ء)

- ✿ آخری عشرے کے اعتکاف والے مقامات پر بھی افطار اجتماع کی ترکیب کی جائے۔
- ✿ یاد رہے! شعبہ ذمہ داران شرکاء کی تعداد پیشگی متعلقہ انتظامی امور نگران کو کم از کم 7 دن قبل بتائیں تاکہ انتظامات بہتر انداز سے کیے جاسکیں۔
- ✿ رمضان اعتکاف کے جدول کے مطابق سیکھنے سکھانے کے حلقوں، مدنی مذاکروں میں بھی ان کی شرکت کروائی جائے تاکہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے۔
- ✿ نگران مجالس، اپنے صوبائی ذمہ داران کی مشاورت سے پیشگی جدول بنالیں کہ کن شخصیات / متعلقہ افراد کو کس مقام پر شرکت کروانی ہے۔
- ✿ مدنی مذاکرے کے لیے شعبے سے متعلق سوالات پیشگی ریکارڈ کر کے مجلس مدنی چینل کو بھیج دیے جائیں، اختتام پر تاثرات بھی لیے جائیں۔
- ✿ رمضان المبارک میں ہفتہ وار اجتماع بروز جمعہ، عصر تا مغرب ہوگا۔ بالخصوص جمعہ کے دن والے شعبہ جات زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے شعبے کے اجتماع کی تیاری فرمائیں۔
- ✿ صوبائی مشاورت کے نگران جدول میں ضرور تائبندیلی کر سکتے ہیں۔
- ✿ 27 ویں شب (اجتماع شب قدر) اور الوداع ماہ رمضان میں تمام شعبوں کی طے شدہ اہداف کے مطابق شرکت ہوگی۔ اہداف متعلقہ نگران مجلس طے کریں۔
- ✿ کوئی شعبہ ہفتہ وار یاروزانہ بھی آنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی، مگر صوبائی مشاورت کے نگران کی پیشگی اجازت کے ساتھ۔ متعلقہ اعتکاف کے انتظامی امور نگران کو کم از کم 3 دن پہلے اطلاع دینا ضروری ہے۔

✿ ڈویژن نگران اور ڈسٹرکٹ نگران متعلقہ ٹاون نگران / تحصیل نگران سے مشورہ کر کے افطار اجتماع میں یوسیز کا جدول بنائیں اور صوبائی آفس میں جمع کروائیں۔

✿ اعتکاف نگران افطار اجتماع کی روزانہ کی کارکردگی متعلقہ ڈویژن کارکردگی ذمہ دار کو جمع کروائیں۔

آخری عشرے کے افطار اجتماع کا یومیہ جدول اور تیاری کا طریقہ

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
10 مارچ	منگل	شعبہ فیضانِ اسلام، سیکورٹی ڈیپارٹمنٹ

شعبہ فیضانِ اسلام: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں، اسلام قبول کرنے والوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

سیکورٹی ڈیپارٹمنٹ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور مختلف سیکورٹی کمپنی کے مالکان کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
11 مارچ	بدھ	روحانی علاج

✿ شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور مریضوں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
12 مارچ	جمعرات	نیوسوسائٹیز ڈیپارٹمنٹ، شعبہ حج و عمرہ

نیوسوسائٹیز ڈیپارٹمنٹ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں بالخصوص نیوسوسائٹیز کی شخصیات کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

شعبہ حج و عمرہ: شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں۔ ٹریول ایجنسی کے مالکان / حج و عمرہ کے کاروان والوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
13 مارچ	جمعہ	معاونت برائے اسلامی بہنیں

شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں بالخصوص ذمہ دار اسلامی بہنوں کے محارم کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
14 مارچ	ہفتہ	رابطہ برائے شخصیات

شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں بالخصوص اہم شخصیات کو بھرپور دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
15 مارچ	اتوار	شعبہ تعلیم

شعبے کے ہر سطح کے تمام ذمہ داران خود بھی شرکت کریں اور اپنے جاننے والوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں نیز تعلیمی اداروں کے پروفیسرز، ٹیچرز، اسٹاف، اسٹوڈنٹس کو بھی لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
16 مارچ	پیر	جامعۃ المدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی

جامعۃ المدینہ: شعبے کے تمام ذمہ داران، ناظمین، مدرسین خود بھی شرکت کریں۔ بالخصوص طلبہ کرام، ان کے سرپرست صاحبان، مقامی مجالس کے ذمہ داران اور درس نظامی مکمل کیے ہوئے کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

فیضان آن لائن اکیڈمی: شعبے کے تمام ذمہ داران، ناظمین، مدرسین خود بھی شرکت کریں۔ بالخصوص طلبہ کرام، ان کے سرپرست صاحبان کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
17 مارچ	منگل	رابطہ برائے تاجران

شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز جن تاجروں سے ہمارے رابطے ہیں، انہیں بھی دعوت دے کر ساتھ لے کر آئیں۔ بالخصوص فیکٹری / مل مالکان، شہر کے بڑے تاجران۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
18 مارچ	بدھ	شعبہ عشر + FGRF

شعبہ عشر: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز بڑے زمینداروں، کسانوں کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

FGRF: شعبے سے وابستہ تمام عاشقانِ رسول و ذمہ داران خود بھی شرکت کریں نیز فلاحی تنظیموں کے سربراہان اور جن کی کسی بھی موقع پر کسی بھی انداز سے امداد کی گئی ان کو بھی دعوت دے کر ساتھ لائیں۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
19 مارچ	جمعرات	تمام شعبہ جات

الوداع ماہ رمضان میں تمام شعبوں کی طے شدہ اہداف کے مطابق شرکت ہوگی۔

عیسوی تاریخ:	دن	شعبہ
20 مارچ	جمعہ	تمام شعبہ جات

الوداع ماہ رمضان میں تمام شعبوں کی طے شدہ اہداف کے مطابق شرکت ہوگی۔

دو حج اور دو عمروں کا ثواب

مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المؤمنین، مولائے کائنات، ابو الحسن، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظیم ہے: جس نے رمضان المبارک میں دس دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کئے۔

(شعب الایمان، باب فی الاعتکاف، 3/425، حدیث: 3966)